

Product Key Fact Statement

UBL Ready Line (Running Finance)

پروڈکٹ کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ
یو بی ایل ریڈی لائن (رننگ فنانس)

A. Your financing details: آپ کی فنانسنگ کی تفصیلات		
Name of the customer	کسٹمر کا نام	
CNIC Number	کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ نمبر	
Name of the product	پروڈکٹ کا نام	Ready Line (Running Finance) ریڈی لائن (رنجنگ فنانس)
Financing Limit Amount:	فنانسنگ رقم کی حد	PKR _____ Minimum PKR 50,000/- & Maximum PKR 3,000,000/- (کم از کم - 50,000 روپے اور زیادہ سے زیادہ - 3,000,000 روپے) روپے
Term of the loan	قرض کی مدت	12 Months Renewal 12 ماہ تجدیدی
Mark-up type	مارک آپ کی قسم	Variable مختلف
B. Estimated cost of this financing: اس فنانسنگ کی تخمینی لاگت		
What Mark-up % will you be charged? آپ سے کتنا مارک آپ وصول کیا جائے گا؟	Rate** % (Yearly) *** شرح (سالانہ)	APR calculation: APR کا حساب: (Mark-up Paid for the period / Outstanding Principal Amount) × (365 / No. of Days) × 100 (مدت کے لیے ادا شدہ مارک آپ / واجب الادا اصل رقم) × (365 / دنوں کی تعداد) × 100
	1YK* + 21.5% (Salaried Customers) (تنخواہ دار کسٹمرز) 1YK* + 22.5% (SEB/SEP Customers) (ایس ای بی / ایس ای پی کسٹمرز) 1YK* + 22.5%	
1YK = 1 Year Kibor – Offer side (taken at the last working day of preceding month) 1YK = ایک سال کا کیبور۔ پیشکش (گزشتہ ماہ کے آخری کاروباری دن میں لیا گیا)		
What other charges will you have to pay? آپ کو دیگر کون سے چارجز ادا کرنے ہوں گے؟	Processing Fee: PKR. 5,000/- or 1% of the limit amount (whichever is higher) Annual (Renewal) Fee: PKR. 5,000/- or as per pertaining SOC Late Payment Charges: PKR. 1,500/- or as per pertaining SOC (any other charges as per SOC) پروسیجرنگ فیس: -/5,000 روپے یا حد کی رقم کا 1% (جو بھی زیادہ ہو) سالانہ (تجدیدی) فیس: -/5,000 روپے یا متعلقہ شیڈول آف چارجز کے مطابق تاخیر سے ادائیگی کے چارجز: -/1,500 روپے یا متعلقہ شیڈول آف چارجز کے مطابق (دیگر چارجز بمطابق شیڈول آف چارجز) مندرجہ بالا فیسیں اور چارجز ناقابل واپسی ہیں۔ Above mentioned fees & charges are non-refundable.	
What will be the monthly Instalment payable? قابل ادا ماہانہ قسط کیا ہوگی؟	Minimum Payment = Accrued Mark-up + Minimum Principal (1.5%)+ Annual Fee (if applicable) + Late Payment (if applicable) + Other charges (if applicable) کم از کم ادائیگی = جمع شدہ مارک آپ + کم از کم پرنسپل (1.5%) + سالانہ فیس (اگر لاگو ہو) + تاخیر سے ادائیگی کی رقم (اگر لاگو ہو) + دیگر چارجز (اگر لاگو ہو) *This is tentative value and exact amount will be communicated from time to time. However actual bill amount will be computed using APR calculation against your utilization for the period. *ایک جانمی رقم ہے اور درست رقم وقتاً فوقتاً بتادی جائے گی۔ تاہم، ہلکی اصل رقم اس مدت میں آپ کے استعمال کی بنیاد پر APR حساب کا استعمال کرتے ہوئے تبدیل کی جائے گی۔	
C. Early payments: ابتدائی ادائیگی:		
Can you repay limit at any time? کیا آپ کسی بھی وقت اپنی حد کی ادائیگی کر سکتے ہیں؟	Yes جی ہاں	
How can you repay the limit? آپ حد کی ادائیگی کیسے کر سکتے ہیں؟	Visit nearest UBL branch OR IBFT through ATM OR Internet Banking/ Mobile App OR Cheque قریبی یو بی ایل برانچ پر جا کر یا ایس ٹی ایم کے ذریعے، IBFT، یا انٹرنیٹ بینکنگ / موبائل ایپ، یا چیک کے ذریعے	
Will you have to pay any additional amount/charges for pre-payment/ early retirement / partial payoff of the loan/finance? کیا آپ کو پیشگی ادائیگی / جلد ریٹائرمنٹ / قرض کی جزوی ادائیگی کے لیے کوئی اضافی رقم / چارجز ادا کرنے ہوں گے؟	No additional charges کوئی اضافی چارجز نہیں ہیں	

D. Default/late payment information:			
معلومات برائے ڈیفالٹ / تاخیر سے ادائیگی:			
What happens if you fail to fulfill your obligations? اگر آپ اپنی بل کی ادائیگی کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو کیا ہوگا؟	Collection starts with Tele Calling/ dunning/ visits/ legal notice / recovery suit. وصولی کا آغاز ٹیلی کالنگ / یاد دہانی / وزٹس / قانونی نوٹس / ریکوری کے مقدمے سے ہوگا۔		
	Any overdue amount, late payment, write-off, or waiver will be reflected in the ECIB report for up to two years after settlement. نوٹ: کوئی بھی تاخیر سے ادائیگی ECIB رپورٹ کا حصہ بن جائے گی۔		
What penalty will you be charged for not repaying on time? وقت پر ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں آپ سے کتنا جرمانہ وصول کیا جائے گا؟	Default charges ڈیفالٹ چارجز	Rate Applied قابل اطلاق شرح	Manner of computing late payment charges تاخیر سے ادائیگی کے چارجز کے شمار کا طریقہ
	Rs. 1,500/-	Not Applicable نا قابل اطلاق	1,500/- (will be recovered from the forthcoming payment) 1,500/- روپے (اگلی واجب الادا رقم سے وصول کیا جائے گا)
Other Information related to Default/Late payment: دیگر معلومات برائے ڈیفالٹ / تاخیر سے ادائیگی			
A late payment fee will be charged on every missed or delayed bill payment and recovered with next due bill. These charges will be recovered in addition to the minimum payment amount due. Kindly ensure timely bill payment to avoid late payment charges. ہر غیر ادا شدہ / تاخیر سے کی گئی بل پیمنٹ پر کسٹمر سے اگلے واجب الادا بل میں، تاخیر سے ادائیگی کی فیس وصول کی جائے گی۔ یہ چارجز کم از کم واجب الادا رقم کے علاوہ وصول کیے جائیں گے۔ براہ مہربانی تاخیر سے ادائیگی کے چارجز سے بچنے کے لیے بروقت بل کی ادائیگی کریں۔			
Can Bank exercise right of set off? کیا بینک سیٹ آف کا حق استعمال کر سکتا ہے؟			
If customer fails to deposit the billed amount, then charges will be recovered from the amount deposited/recovered through customer's liability accounts. کسٹمر کے بل کی رقم جمع کروانے میں ناکامی کی صورت میں کسٹمر کے ذمہ شدہ اکاؤنٹس کے ذریعے جمع شدہ / ریکوری کی رقم سے چارجز وصول کیے جائیں گے۔			
E. Other material information:			
دیگر متعلقہ معلومات:			
What happens in case of death of borrower(s)? قرض خواہ کی وفات کی صورت میں کیا ہوگا؟	In case of deceased Customer's Next of Kin (NOK) will contact with UBL call centre or visit nearest UBL branch. وفات کی صورت میں کسٹمر کا قریبی رشتہ دار (NOK) یو بی ایل کال سینٹر سے رابطہ کرے گا یا قریبی یو بی ایل برانچ پر تشریف لائے گا۔		
	Not Applicable (No guarantor required in Ready Line). کسی ذمہ داری کا اطلاق نہیں ہوتا (ریڈی لائن میں کسی ضامن کی ضرورت نہیں ہے)		
What documents will be provided to you? آپ کو کون سے دستاویزات فراہم کیے جائیں گے؟	Ready Line Application, undertaking, Sign Mismatch (SMM), Legal Document, Auto Debit Form, Copy of Key Fact Statement. ریڈی لائن کی درخواست، اقرار نامہ، سائن میسج (SMM)، قانونی دستاویزات، آٹو ڈیبٹ فارم، کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ کی نقل۔		
	111-825-888 or www.ubldigital.com		
Where can you get assistance and redress? آپ کو کہاں سے معاونت یا مسائل کا حل مل سکتا ہے؟			
Note نوٹ	(i) All other bank charges will be as per Bank's Schedule of Charges (SOCs) (ii) Other government taxes and FED may apply. (i) دیگر تمام بینک کے چارجز بینک کے شیڈول آف چارجز (SOC) کے مطابق ہوں گے (ii) دیگر سرکاری ٹیکسز اور FED قابل اطلاق ہو سکتے ہیں		
Sunwai Link:	https://sunwai.sbp.org.pk/		

Borrower's Signatures

قرض خواہ کے دستخط

Authorized Banker's Signature, Stamp and Date

مجاز بینکر کے دستخط، اسٹیمپ اور تاریخ